

# READY NEW YORK

میرا

ہنگامی

منصوبہ



کووڈ-19 سے متعلق  
قابل غور باتیں شامل

**NYC**

Emergency  
Management

Department for  
the Aging

Mayor's Office for  
People with Disabilities



## میری معلومات

برائے مہربانی جلی حروف میں لکھیں۔ اگر پی ڈی ایف فائل دیکھ رہے ہیں، تو ہائی لائٹ کی گئی جگہوں پر کلک کر کے معلومات درج کریں۔

نام:

پتہ:

دن کا فون نمبر:

شام کا فون نمبر:

سیل فون نمبر:

ای میل:

کسی بھی ہنگامی صورت حال کے لئے تیار رہنے کے لئے تین بنیادی اقدامات ہیں:

ایک منصوبہ بنائیں



اشیائے ضروری اکٹھا کریں



باخبر رہیں



سوچئے کہ ہنگامی صورت حال آپ کو کس طرح متاثر کرسکتی ہے۔ ہنگامی صورت حال میں گھر میں گر جانا یا گھر میں آگ لگنا یا ہری کین (ہوائی طوفان) کا آنا شامل ہوسکتے ہیں۔ آپ اس گائیڈ کا استعمال کر کے ان چیزوں کی ایک فہرست بنائیں جن کی آپ کو ایک ہنگامی صورت حال میں ضرورت پڑسکتی ہے۔

برائے مہربانی ان حصوں کو پر کریں جن کا اطلاق آپکی اور آپکی ضرورتوں پر ہوتا ہے۔ آپ اس منصوبے کو Android اور iOS کے آلات کے لئے بنائے ریڈی این وائی سی ایپ پر بھی مکمل کرسکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔

بشمول "ریڈی نیو یارک: آپ کا کیا پلان ہے؟" ویڈیو سلسلہ، اضافی ہنگامی تیاریوں کے سامان کی رسائی کے لئے NYC.gov/readyny پر جائیں۔



کسی ہنگامی صورت حال سے اکیلے نہیں گزرنا چاہئیے۔ کم از کم دو لوگوں سے اپنے ہنگامی امدادی نیٹ ورک میں رہنے کو کہیں - یہ خاندان کے افراد، دوست، پڑوسی، نگراں، ساتھی کارکنان، یا برادری گروپ کے ممبران ہوسکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ہنگامی حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرسکتے ہیں اور راحت پہنچا سکتے ہیں۔

آپ کے ہنگامی امدادی نیٹ ورک کو چاہیے کہ:

- کسی ہنگامی حالت میں رابطہ بنائے رکھے
- معلوم ہو کہ آپ کا ہنگامی ساز و سامان کہاں ملے
- معلوم ہو کہ ہنگامی حالت میں آپ کے طبی آلے کو کیسے چلایا جائے یا آپ کو محفوظ جگہ منتقل کرنے میں کس طرح مدد کی جائے۔

ہنگامی امدادی نیٹ ورک کے رابطے:

نام/رشتہ:
فون (گھر/دفتر/سیل):
ای میل:
نام/رشتہ:
فون (گھر/دفتر/سیل):
ای میل:

اپنے علاقے سے باہر کے دوست یا رشتہ دار کو منتخب کریں جس کو اہل خانہ یا دوست آفت کے دوران کال کرسکتے ہوں۔ اگر مقامی فون لائنیں مصروف ہوں تو دور کی کالیں کرنا آسان ہوسکتا ہے۔ اپنے علاقے سے باہر کا یہ رابطہ آپ کے نیٹ ورک میں شامل افراد کے ساتھ مواصلت کرنے میں آپ کی مدد کرسکتا ہے۔

اپنے علاقے سے باہر کا رابطہ:

نام/رشتہ:
فون (گھر/دفتر/سیل):
ای میل:

# ایک منصوبہ تیار کریں

## صحت اور طبی معلومات

ایک منصوبہ تیار کریں جو آپ کی ضرورتوں کو بہتر طور پورا کرے۔ اپنے ڈاکٹر(وں)، فارمیسیسٹ، اور دیگر صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان سے اپنی مخصوص ضرورتوں کے بارے میں بات کریں اور آگاہ کریں کہ کسی ہنگامی حالت میں ان کو کیسے پورا کرنا چاہئے۔

اپنے ہنگامی رابطوں اور طبی معلومات کی ایک فوٹو کاپی بنائیں۔ اس کو ہمیشہ اپنے بٹوے یا پرس میں رکھیں۔

## صحت اور زندگی بچانے والی اہم معلومات:

الرجیاں:

دیگر طبی کیفیات:

ضروری دوائیں اور یومیہ خوراکیں:

چشمے کا نسخہ:

خون کی قسم:

مواصلتی آلات:

سامان:

بیلٹھ انشورنس پلان

ترجیحی ہسپتال:

انفرادی #/گروپ #:

ڈاکٹر/ماہر خصوصی:

فون:

ڈاکٹر/ماہر خصوصی:

فون:

فارمیسی:

پتہ:

شہر:

فون / فیکس:



عوامی صحت کے ہنگامی حالات شدید گرمی سے لیکر بیماریوں کی برپائی والے ہوسکتے ہیں۔ ان خطروں سے ہر شخص متاثر ہوسکتا ہے۔ صحت کی ہنگامی حالت کے پیش نظر:

- اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہیں تو گھر پر رہیں۔
- اگر علامات شدید یا بدتر ہیں، تو فوراً ہسپتال ایمرجنسی روم میں جائیں یا 911 کو کال کریں۔
- صابن سے یا الکوحل والے کلینر سے اپنے ہاتھ اکثر دھوئیں۔
- صحت کے اہلکاران کے اعلانات کے لئے مقامی ٹیلی ویژن یا ریڈیو کی طرف رجوع کریں۔
- شدید گرمی کی لہر کے دوران شہری حکام ٹھنڈے مراکز کھولیں گے۔ جب مراکز کھولے جائیں گے تو اپنے قریبی مرکز کا پتہ کرنے کے لئے NYC.gov ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔
- صحت مند اور محفوظ رہنے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے این وائی سی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ مینٹل ہائی جین سے NYC.gov/health پر یا 311 (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675 ، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) پر کال کر کے رابطہ کریں۔ صحت کی ہنگامی حالت کی اطلاع کے لئے 911 کو کال کریں۔

### مواصلات کریں۔

اپنے منصوبے میں مواصلت کو شامل کریں

کسی ہنگامی حالت میں آپ دوستوں یا ہنگامی کارکنان سے کیسے بات کریں گے اس کا منصوبہ بنانے کے لیے ابھی وقت نکالیں۔ ہنگامی حالت کے دوران، مواصلت کا آپ کا معمول کا طریقہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں، شور، یا اشتباہ کی وجہ سے متاثر ہوسکتا ہے۔ آپ کے ہنگامی منصوبے میں دوسروں کے ساتھ مواصلت کرنے کے مختلف طریقے شامل ہونے چاہئے۔

- اگر آپ بہرے ہیں یا اونچا سنتے ہیں تو اشاروں، نوٹ کارڈ، ٹیکسٹ مسیج، یا دیگر متبادل ذرائع کی معرفت اپنی ضروریات کو بتانے کی مشق کریں۔

- اگر آپ نابینا ہیں یا کم بینائی کے حامل ہیں تو اپنی رہنمائی کرنے کے بہترین طریقے کی بابت دوسروں کو بتانے کے لیے تیار رہیں۔

## دوسروں کے ساتھ مواصلت کریں

مختصر جملے لکھیں جو آپ کو ہنگامی حالت میں کام آسکتے ہیں۔ پہلے سے لکھے ہوئے کارڈ یا ٹیکسٹ مسیج سے کسی تناؤ بھرے یا ناگوار صورتحال میں اپنے امدادی نیٹ ورک یا ہنگامی کارکنان کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ آپ کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کافی وقت شاید نہ ہو۔ جملوں میں مندرجہ ذیل شامل ہوسکتے ہیں:

- آپ مجھ سے جو بات کہہ رہے ہیں مجھے اسے سمجھنے میں شاید مشکل ہو رہی ہے۔ براہ کرم دھیرے دھیرے بولیں اور آسان زبان یا تصاویر کا استعمال کریں۔
- میں رابطہ کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال کرتا ہوں۔
- میں بہرا ہوں اور امریکی اشاراتی زبان استعمال کرتا ہوں۔
- براہ کرم ہدایات تحریر کریں۔
- میں [زبان درج کریں] بولتا ہوں۔

آپ جو جملے پیشگی لکھیں گے ان کا اطلاق گھر میں اور گھر کے باہر ہنگامی حالات میں ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر انہیں ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو اہل خانہ، دوستوں، یا نگرانوں سے مدد طلب کریں۔

ذیل میں آپ کو اپنے فقرے تحریر کرنے کے لیے جگہ دی گئی ہے:



## ملاقات کی جگہ

معلوم ہو کہ کسی ہنگامی حالت کے بعد آپ اہل خانہ، دوستوں یا نگرانوں سے کس جگہ پر ملیں گے۔ ملنے کے لیے دو جگہیں منتخب کریں: ایک اپنے گھر کے عین باہر اور دوسری اپنے مضافات سے باہر، جیسے لائبریری، کمیونٹی سینٹر، یا عبادت گاہ۔

جب بھی آپ کسی نئی جگہ پر ہوں نکاسی کے راستوں کو جاننے کی عادت ڈالیں (جیسے، شاپنگ مال، ریستوراں، فلم تھیٹر سے نکاسی کے راستے)۔

گھر کے قریب جائے ملاقات
پتہ:
مضافات سے باہر جائے ملاقات:
پتہ:
مقامی پولیس کا دفتر:
فون نمبر اور پتہ:

- اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو فوری طور پر باہر نکل جائیں۔
- اگر آپ کو گیس کی بو آتی ہے، یا دھواں یا آگ دکھائی دیتی ہے تو فوری طور پر باہر نکل جائیں۔
- اگر آپ کو ہنگامی اعانت درکار ہو تو 911 پر کال کریں۔
- تازہ ترین ہنگامی معلومات کے لئے مقامی ٹی وی اور ریڈیو کی نشریات سننا یاد رکھیں، NYC.gov ویب سائٹ دیکھیں، 311 پر کال کریں (ویڈیو ریلے سروس کے لیے 212-639-9675 پر، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115)۔





## معلوم رہے کہ آپ کہاں رہیں گے

اپنے علاقہ سے باہر رہنے والے دوستوں یا رشتہ داروں سے پوچھیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں۔ یہ چیک کریں اور دیکھ لیں کہ آیا ان میں کووڈ-19 کی علامات موجود ہیں یا ان کے گھر میں ایسے لوگ ہیں جن کو سنگین بیماری کا زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ اگر ان میں علامات موجود ہوں یا گھر کے لوگوں کو بیماری کا زیادہ خطرہ لاحق ہو، تو کسی دوسرے مقام پر ٹھہرنے کے انتظامات کریں، جیسے ہوٹل یا انخلائی مرکز۔ اگر آپ یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو کووڈ-19 کی جانچ میں متاثر پایا گیا ہو اور رہنے کے لئے جگہ درکار ہو، تو اپنے صحت کی خدمات فراہم کنندہ سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو ہیلتھ + ہاسپٹل ٹیک کیئر ہوٹل پروگرام میں بھیج سکتے ہیں۔

میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں:

نام/رشتہ:
پتہ:
فون (گھر/دفتر/سیل):
ای میل:
نام/رشتہ:
پتہ:
فون (گھر/دفتر/سیل):
ای میل:

اپنے اہل خانہ کے ساتھ باقاعدگی سے انخلاء کی مشق کریں (اپنے پالتو اور خدمت دینے والے جانوروں کو اپنی مشقوں میں شامل کریں) اور آپ کو جو مختلف حالات پیش آسکتے ہیں انہیں زیر غور رکھیں، جیسے بند سڑکیں اور نکاسی کے راستے۔

آتش زدگی کی صورت میں فائر پروف عمارتوں کے تمام باشندوں کو مندرجہ ذیل کے لئے تلقین کی جاتی ہے:

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>اگر آگ آپ کے اپارٹمنٹ میں لگی ہے:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اپنے اپارٹمنٹ میں رہیں۔ سات منزلوں سے اونچی عمارتیں فائر پروف ہوتی ہیں۔</li> <li>■ 911 پر کال کریں؛ آپریٹر کو بتائیں کہ آپ کس جگہ ہیں۔ نیویارک فائر ڈپارٹمنٹ آپ کے اپارٹمنٹ میں آئیں گے۔</li> <li>■ اپنا دروازہ بند رکھیں۔ اگر آپ کے اپارٹمنٹ میں دھواں آ رہا ہے، اپنے دروازے کے نیچے گیلا تولیہ رکھیں۔</li> </ul> | <p><b>اگر آپ کے اپارٹمنٹ میں آگ لگی ہے:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ فوراً باہر نکل جائیں اور اپنے پیچھے دروازہ بند کریں۔</li> <li>■ جب آپ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئے ہوں تب 911 کو فون کریں۔</li> </ul> |
|---|--|



## نقل و حمل

اگر آپ کے سب وے یا بس یا نقل و حمل کے دیگر ذرائع چالو نہیں ہیں تو، نقل و حمل کے دوسرے منصوبے بنانے کے لیے تیار رہیں۔ بشمول نقل و حمل کے انقطاع و خلل کی معلومات، ہنگامی واقعات اور سٹی کی اہم خدمات کی معلومات حاصل کرنے کے لئے نیویارک شہر کے مفت، سرکاری ہنگامی مواصلات پروگرام نوٹیفائے این وائی سی (Notify NYC) کے لئے سائن اپ کریں۔

متبادل بس:
متبادل سب وے/ٹرین
دیگر ذرائع:
میں (دوست کو) کال کروں گا:
فون (گھر/دفتر/سیل):
ٹیکسی سروس:
فون:

**یاد رکھیں:** اگر آپ کو کسی ہنگامی حالت کے دروان انخلاء میں مدد کی ضرورت ہو تو 911 کو کال کریں۔

ساحلی طوفان یا ہری کین کے دوران ان لوگوں کے لئے جو ہری کین انخلاء والے علاقے میں رہتے ہیں انخلاء کا حکم جاری کیا جاسکتا ہے۔ انخلاء کے علاقوں کے تلاش کار کے لئے [NYC.gov/knowyourzone](http://NYC.gov/knowyourzone) ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کر کے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) معلوم کریں کہ کیا آپ ہری کین کے انخلاء والے علاقے میں رہتے ہیں۔

اگر شہری حکام نے انخلاء کا حکم دیا ہے، تو ہدایات کے مطابق انخلاء کریں اپنی ضروریات کو خیال میں رکھیں اور منتقلی کے لئے کافی وقت لے کر چلیں۔ معذور افراد اور رسائی و کارگزاری سے متعلق ضروریات والے دیگر لوگ جن کے پاس محفوظ انخلاء کے کوئی دوسرے ذرائع نہیں ہیں، 311 کو کال کر کے نقل و حمل کی مدد طلب کرسکتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کے مطابق آپ کو:

■ قابل رسائی گاڑی میں قابل رسائی انخلاء سینٹر یا

■ ایک ایمبولینس کے ذریعہ انخلاء کے علاقے سے باہر کسی ہسپتال میں لے جایا جائے گا۔

آپ کسی مخصوص پتہ تک نقل و حمل کی درخواست نہیں کرسکیں گے۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلویٹر پر انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخلاء کریں۔ ایلویٹر خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔

میں اس زون (حلقہ) میں رہتا ہوں:

میں اس زون (حلقہ) میں کام

کرتا ہوں:

### جائے پناہ

اگر کسی ہنگامی حالت کے پیش نظر آپ کو انخلاء کی ضرورت پڑے یا گھر میں رہنا ممکن نہ ہو تو کسی ہوٹل میں، کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر میں یا کسی شیلٹر میں ٹھہرنے پر غور کریں۔ اگر آپ کسی ہنگامی پناہ میں جاتے ہیں تو، چہرے کو ڈھانپیں اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے مابین جسمانی فاصلہ رکھیں (یعنی کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پر رہیں)۔

ہنگامی پناہ گاہیں اسکولوں، سٹی کی عمارتوں، اور عبادت گاہوں میں متعین کی جاسکتی ہیں۔ پناہ گاہیں بنیادی غذا، پانی اور ضروری اشیاء فراہم کرتی ہیں۔ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑسکتی ہے بشمول خصوصی سامان (جیسے آکسیجن، حرکت پذیری والے امدادی سامان، بیٹریاں، وغیرہ) اپنے ساتھ لانے کے لئے تیار رہیں۔ خاندان کے افراد یا آپ کے ہنگامی امدادی نیٹ ورک کے اراکین آپ کے ساتھ پناہ گاہ آ سکتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس کوئی پالتو جانور ہے تو انخلاء کی حدود سے باہر کے علاقے میں کسی سگ خانہ یا اپنے دوست یا رشتہ دار کے ہاں اپنے پالتو جانور کو رکھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے ہیں، پالتو جانوروں کو تمام سٹی پناہ گاہوں میں رکھنے کی اجازت ہے۔ برائے مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ لائیں جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں شامل ہو۔ اپنے پالتو جانور کی صفائی کی چیزیں ساتھ لائیں۔ صرف قانونی طور اجازت شدہ جانور کی اجازت ہوگی۔ خدمت دینے والے جانور کی ہمیشہ اجازت ہے۔ پالتو جانور کے ہنگامی منصوبے کے لئے مزید معلومات کے لئے "Ready New York": میرے پالتو جانور کا ہنگامی منصوبہ" پر نظر ثانی کریں۔

پناہ گاہیں ہنگامی حالت کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ قریبی پناہ گاہ کو ڈھونڈنے کے لئے 311 پر کال کریں (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675 پر یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115)۔



آپ کے گھرانے کے ہر شخص کے پاس ایک گو بیگ (Go Bag) ہونا چاہیے۔ گو بیگ ان چیزوں کا مجموعہ ہے جو جلد بازی میں آپ کو گھر چھوڑنے کی صورت میں درکار ہوں گی۔ آپ کا گو بیگ مضبوط اور لے جانے میں آسان، ایک بیک بیک کی طرح یا پھٹے والے چھوٹے سوٹ کیس کی طرح ہونا چاہیے۔

جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں ان پر نشان لگائیں اور جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی انہیں نیچے شامل کریں:

- پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینولا بار
- ایک واٹر پروف ڈیے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکل/میڈیکل کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور ولادت کی اسناد، کریڈٹ اور ATM کارڈوں کی نقول)
- فلیش لائٹ، ہاتھ سے چلنے والا، بیٹری سے چلنے والا AM/FM ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں
- ادویات کی فہرست جو آپ لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں اور انکی خوراک
- آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات
- نقدی، چھوٹے نوٹوں میں
- نوٹ پیڈ اور قلم
- طبی آلات کا بیک اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر
- وہیل چیئر یا اسکوٹر کے پنچر شدہ ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ٹائر انفلیر اور/یا ایروسول ٹائر مرمتی کٹ
- اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ، صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں)
- پورٹ ایبل سیل فون چارجر
- آپ کو اور دوسرے لوگوں کو کووڈ-19 سے بچانے کے سامان، بشمول ہینڈ سینیٹائزر، اور ہر فرد کے لیے چہرے کو ڈھانپنے کی چیزیں۔
- دیگر نجی چیزیں:





کچھ ہنگامی حالات میں، جیسے سردیوں کے طوفان اور بگولوں میں، آپ کو گھر پر ہی رہنا پڑسکتا ہے۔ کسی ہنگامی سپلائی کٹ میں کم از کم سات دن تک کے لیے کافی رسد ہونی چاہیے۔

جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں ان پر نشان لگائیں اور جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی انہیں نیچے شامل کریں:

- فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن
- خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے والا دستی آلہ
- ابتدائی طبی امداد کا باکس (فست ایڈ کٹ)
- ادویات کی فہرست جو آپ لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں اور انکی خوراک
- فلیش لائٹ، بیٹری سے چلنے والا لال ٹین، بیٹری سے چلنے والا AM/FM ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں، یا وائٹڈ اپ ریڈیو جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں۔
- گلو اسٹک (چمکتی چھڑی)
- سیٹی یا بیل
- اگر ممکن ہو تو طبی آلات کا بیک اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی آلات، حرکت پذیری والے آلات، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)
- طبی آلات (جیسے پیس میکر) کا اسٹائل اور سیریل نمبر اور استعمال کی بابت ہدایات
- دیگر چیزیں:


ایسی چیزوں کو دھیان میں رکھیں جن کی ضرورت آپ کو ہنگامی حالات جیسے سردیوں کے طوفان اور شدید گرمی کی لہروں میں پڑسکتی ہے۔

### سردیوں کے موسم کی رسدات:

- کمبل، اسلیپنگ بیگ، انسولیشن کے لئے فاضل اخبارات
- فاضل گرم دستانے، موزے، گلو بند اور ٹوپی، برساتی لبادہ اور فاضل کپڑے
- دیگر چیزیں:

### گرم موسم کی رسدات:

- ہلکے، ڈھیلے کپڑے
- سن اسکرین (کم سے کم 15 SPF)
- بجلی جانے کی صورت میں ہنگامی حالت میں کھانا بنانے کی رسدات جیسے استعمال کے بعد پھینک دئے جانے والے پلیٹ، کپ اور برتن

اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی میں رکھنے کے لئے ہنگامی سپلائی کٹ تیار کرنے پر غور کریں جس میں شامل ہوں:

- ریت کی ایک بوری یا کٹی لٹر جس سے پھٹیوں کے نیچے کھنچاؤ پیدا ہو اور ایک چھوٹا بیلچہ
- ٹائر کی چین یا ٹریکشن میٹ
- ورکنگ جیک اور لگ رینچ، فاضل ٹائر
- ونڈ شیلڈ اسکرپر اور جھاڑو
- چھوٹے آلات (پلاس، رینچ، پیچ کس)
- بوسٹر کیبل
- چمکیلا کپڑا جس کو جھنڈے کے طور پر استعمال کیا جاسکے، فلئیر اور معکوس ٹرائنگل





## خصوصی غور و خوض

- اپنی ہنگامی رسدات میں ان چیزوں کو شامل کرنے پر غور کریں جو آپ کی ضرورتوں کے مطابق ہوں جن میں آپ کے خوراک اور طبی ضرورتیں شامل ہیں۔
- اگر آپ بجلی سے چلنے والے طبی آلات پر انحصار کرتے ہیں تو بیک اپ پاور کے بارے میں معلومات کے لیے اپنی طبی سپلائی کمپنی سے رابطہ کریں۔
- اگر آپ زندگی بچانے والے آلات کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے پوچھیں اگر آپ کے بجلی سے چلنے والے طبی آلات اس قابل ہوں کہ آپ کا اندراج زندگی بچانے والے آلات کا استعمال کرنے والے صارف (کسٹمر) کی حیثیت سے کیا جائے۔ اندراج کرانا ایک اہم قدم ہے لیکن آپ کے پاس پاور کی بیک اپ سوریس ہونا چاہئے، جیسا کہ ایک بیٹری یا آکسیجن کا ٹینک جس کے لئے بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
- اگر آپ آکسیجن پر انحصار کرتے ہیں تو ہنگامی حالت میں اس کی بدل کاری کے بارے میں آکسیجن سپلائر سے بات کریں۔
- اگر آپ نازک معالجے حاصل کرتے ہیں جیسے ڈائلیسس یا کیموتھیراپی تو اپنے فراہم کنندہ سے بات کریں کہ آپ کس طرح ان معالجات کو ہنگامی صورت حال میں حاصل کرتے رہیں گے۔

اس گائیڈ کو پورا کرنے کے بعد آپ  
کمر بستہ نیویارکر بن!  
جاتے ہیں! مبارکباد!

## کووڈ-19 سے متعلق قابل غور باتیں

کووڈ-19 ایک متعدی تنفسی بیماری ہے جو 2019 ناول کورونا وائرس کے سبب لاحق ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کی بیماری کسی متاثرہ شخص کے سانس لینے، کھانسنے، گانے یا بولنے سے نکلنے والے چھوٹے ذرات کے ذریعہ اس وقت پھیلتی ہے جب لوگ جسمانی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔

وائرس کی زد میں آنے کے 14 دن بعد تک علامات ظاہر ہوسکتی ہیں اور ان میں بخار، کھانسی، اور تھکاوٹ، نیز خوشبو اور ذائقہ کی حس ختم ہونا شامل ہے۔

**وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو لگاتار دھوئیں۔**

■ اپنے اور اپنے معاشرتی دائرے میں نہیں رہنے والوں کے درمیان چھ فٹ کی دوری قائم رکھ کر سماجی دوری کے اصول پر عمل کریں۔

■ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے چہرے کے ماسک کا استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنے والے افراد، یا بے ہوش، معذور، یا مدد کے بغیر ماسک نہیں ہٹا پانے والے لوگوں کو بھی چہرے پر ماسک استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov) کو ملاحظہ کر کے مراکز برائے انسداد امراض (CDC) کی جانب سے مزید معلومات حاصل کریں۔

اگر آپ کو انخلاء کرنا لازمی ہے، تو کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر جانے پر غور کریں۔ اگر آپ کو، اپنے گھر کے کسی فرد کو، یا آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کووڈ-19 کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، تو دوسرے بندوبست کریں (صفحہ 9 ملاحظہ کریں)۔

■ اگر آپ کو کسی ہنگامی پناہ گاہ میں جانا لازمی ہو، تو کووڈ-19 کی علامات کے لیے آپ کی جانچ کی جائے گی۔

■ ہنگامی پناہ گاہ سے کسی کو بھی واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ علامات والے لوگوں کو کسی دوسرے مرکز میں منتقل کر دیا جائے گا۔

■ ہنگامی پناہ گاہوں میں محکمہ صحت و دماغی تندرستی کی ہدایات کے مطابق صفائی کے بہتر پروٹوکول قائم کیے گئے ہیں۔

■ ہر پناہ گاہ میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے ایک الگ تھلگ علاقہ ہوگا جس کو پناہ لینے کے دوران کووڈ-19 کی علامات لاحق ہوسکتی ہیں۔

## ناخوشگوار واقعات کے لیے تیار رہیں

نیویارک کے باشندوں کو ہمیشہ غیر متوقع حالات کے لئے چوکس اور تیار رہنا چاہئے۔ دہشت گردی کے حملے کی صورت میں خود کو محفوظ رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھانا ضروری ہے۔

**انخلاء کرنا چاہئے یا گھر میں رہنا چاہئے اس بارے میں ہنگامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔**

■ اگر آپ کو انخلاء کی ہدایت دی جاتی ہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکل آئیں۔ اگر ممکن ہو تو فرش کی طرف نیچے رہیں۔ اگر آپ عوامی نقل و حمل میں سوار ہیں جیسے کہ بس، سب وے یا ٹرین اور آپ سے انخلاء کے لئے کہا جاتا ہے تو عملے اور ہنگامی کارکنان کی ہدایت کو سننا یاد رکھیں۔

■ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ہیں وہیں رہیں ”شلٹر ان پلیس (جہاں ہیں وہیں پر پناہ لیں)“ تو جب تک جانے کے لئے نہ کہا جائے وہاں سے نہ نکلیں۔ دروازے مقفل کریں، کھڑکیاں، روشندان، فائر پلیس ڈیمپر بند کریں۔

**چوکس رہیں اور عمل کریں۔**

اپنے گردو پیش سے ہمیشہ خبردار رہیں۔ اگر آپ کو کچھ معمول کے مطابق نہیں لگ رہا ہے، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کی یقینی طور پر خبر دیں۔

■ اگر آپ کسی مشکوک سرگرمی کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو 1-888-NYC-SAFE پر (1-888-692-7233) یا 911 پر کال کریں۔

■ اگر آپ MTA کی بسوں اور سب وے یا کسی جائے عام پر سفری سامان یا بیگ چھوڑا ہوا دیکھتے ہیں تو MTA یا NYPD کو اطلاع دیں۔

■ اگر آپ کو مشکوک ڈاک ملتا ہے، تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ NYPD کو اس کی اطلاع دیں یا 911 کو کال کریں۔ اگر آپ نے پیکیج کو ہاتھ لگایا ہے تو اپنے ہاتھوں کو فوراً صابن اور پانی سے دھوئیں۔

مزید معلومات کے لئے [NYC.gov/plannow](http://NYC.gov/plannow) پر جائیں۔

## نیویارک شہر کے وسائل

سٹی ایجنسیوں سے رابطہ کے لئے جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675 یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) کال کریں یا NYC.gov کا استعمال کریں۔

این وائی سی ہنگامی منیجمنٹ

NYC.gov/emergencymanagement

این وائی سی ہنگامی منیجمنٹ آؤٹ ریج اینڈ اینگیجمنٹ ریسورسز ریڈی نیو یارک - مواد اور پریزنٹیشن کی درخواست کریں

NYC.gov/readyny

این وائی سی کمیونٹی کی مستعدی - کمیونٹی کی منصوبہ بندی سے متعلق وسائل اور معلومات حاصل کریں

NYC.gov/communitypreparedness

این وائی سی سی ای آر ٹی - کمیونٹی ہنگامی والنٹیر کے طور پر تربیت حاصل کریں

NYC.gov/cert

پارٹنرس ان پریپڈنیس - یقینی بنائیں کہ آپ کا کاروبار کمر بستہ ہے

NYC.gov/partnersinpreparedness

ہری کین سے انخلاء والے حلقے کا تلاش کار

NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی ڈپارٹمنٹ آف ایجنگ

NYC.gov/aging

معذوری سے متاثر لوگوں کے لئے میئر کا دفتر

NYC.gov/mopd

این وائی سی محکمہ صحت و دماغی تندرستی

NYC.gov/health

این وائی سی کووڈ-19 کا معلوماتی پورٹل

NYC.gov/coronavirus

## با خبر رہیں

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام

[www.floodsmart.gov](http://www.floodsmart.gov)

1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سینٹر/

ٹراپکل پریڈیکشن سینٹر

[www.nhc.noaa.gov](http://www.nhc.noaa.gov)

نیشنل ویدر سروس

[www.weather.gov](http://www.weather.gov)

مراکز برائے انسداد امراض (CDC)

[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

فیس بک اور ٹویٹر پر این وائی سی ہنگامی منیجمنٹ

[www.facebook.com/](http://www.facebook.com/)

NYCEmergencymanagement

@nycemergencymgt

فیس بک اور ٹویٹر پر سٹی آف نیو یارک

[www.facebook.com/nycgov](http://www.facebook.com/nycgov)

@nycgov

نوٹیفائے این وائی سی - مفت ہنگامی الرٹ

حاصل کریں

آپ کے لئے اہم ترین اطلاعات حاصل کریں۔ مفت ایپلی کیشن حاصل کر کے، NYC.gov/notifynyc پر جاکر، 311 پر کال کر کے یا ٹویٹر پر @NNYCUrdu فالو کر کے رجسٹر کریں۔

ایڈوانس وارننگ سسٹم

ان اداروں کے لئے جو معذور افراد اور رسائی و کارگزاری سے

متعلق ضروریات والے دیگر لوگوں کے لئے

[www.advancewarningsystemnyc.org](http://www.advancewarningsystemnyc.org)

بجلی پانی گیس کی سہولیات

Con Edison

1-800-75-CONED (800-752-6633)

(TTY: 800-642-2308)

[www.coned.com](http://www.coned.com)

Public Service Electric and Gas Company - Long

Island (PSEG Long Island)

1-800-490-0025, (TTY: 631-755-6660)

[www.psegliny.com](http://www.psegliny.com)

National Grid

718-643-4050, (TTY: 718-237-2857)

[www.nationalgridus.com](http://www.nationalgridus.com)

## فلڈ زون (سیلاب کے علاقے)

فلڈ زون کو سیلاب کے انشورنس کی شرح

اور عمارتوں سے متعلق ضابطے طے کرنے کے

لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ رہائشیوں کو یہ

طے کرنے کے لئے سیلاب زون کا استعمال

نہیں کرنا چاہئے آیا ان کو ساحلی طوفان

کے دوران انخلاء کرنے کی ضرورت ہے۔ شہری

انتظامیہ حقیقی طوفان کی خصوصیات

کی بنا پر تعین کرے گا جب وہ شہر کی

طرف آرہا ہو کہ ہری کین کے انخلاء کے کن

زونز سے (زون 1 سے لے کر زون 6 تک) انخلاء

ہونا چاہئے۔ سیلاب کے زونز کے بارے میں

مزید معلومات کے لئے:

[NYC.gov/floodmaps](http://NYC.gov/floodmaps)

[www.floodhelpny.org](http://www.floodhelpny.org)

## غیر منفعتی خدمت فراہم کنندگان

گریٹر نیویارک میں امریکن ریڈ کراس  
877-RED-CROSS (877-733-2767)  
www.nyredcross.org

معذوری کی ہنگامی صورت حال کے لئے تیار رہنے کی پہل کے لئے  
قومی تنظیم

202-293-5960, (TTY: 202-293-5968)  
www.nod.org/emergency

## این وائی سی ویل

این وائی سی ویل مفت، رازدارانہ ذہنی صحت کی معاونت کے لئے آپ  
کا رابطہ فون، ٹیکسٹ مسیج یا آن لائن چیٹ کے ذریعہ کونسلر سے بات  
کریں۔

1-888-NYC-WELL, (1-888-692-9355), (TTY: 711)

(ٹی ٹی وائی: 711)

651-73 کو "WELL" ٹیکسٹ کریں  
NYC.gov پر جائیں اور "NYC Well" تلاش کریں

## میرے وسائل

اپنے اہم وسائل اور فون نمبر یہاں شامل کریں


نیویارک ایمرجنسی مینیجمنٹ اس پروجیکٹ پر ایکسیس اینڈ فنکشنل  
نیڈس ایڈوائزی گروپ کے ممبران کی محنت کے لیے ان کا شکر گزار ہے۔

# مطلع ہو جائیں!

سٹی کے سرکاری ایمرجنسی اطلاعات سسٹم کے لئے [nyc.gov](http://nyc.gov) پر جاکر مفت سائن اپ کریں۔  
مفت ایپ حاصل کریں، [nyc.gov](http://nyc.gov) ملاحظہ کریں، 311 کو کال کریں، یا [@NNYCUrdu](https://twitter.com/NNYCUrdu) کو فالو کریں۔



■ میں نے نوٹیفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیا ہے

# یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

## ARABIC

للحصول على نسخة من هذا الدليل باللغة العربية اتصل بـ 311 (معوقى السمع: 212-504-4115) أو قم بزيارة [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny)

## BENGALI

এই সহায়িকার একটি বাংলা প্রতিলিপি পেতে হলে, 311 (TTY: 212-504-4115) নম্বরে ফোন করুন অথবা [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny) দেখুন।

## CHINESE

如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny)。

## ENGLISH

Call 311 or visit [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny) for copies of this guide in English.

## FRENCH

Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) ou visitez le site [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny).

## HAITIAN CREOLE

Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) oswa ale nan sitwèb [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny).

## ITALIAN

Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 (TTY: 212-504-4115) o visitare il sito [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny).

## KOREAN

본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면, 311 (TTY: 212-504-4115)로 전화하시거나 [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny)를 방문하십시오.

## POLISH

W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego przewodnika, należy zadzwonić pod nr 311 (nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny).

## RUSSIAN

Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny).

## SPANISH

Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny) para obtener acceso a este folleto en español.

## URDU

اس ہدایت نامے کی انگریزی کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا [NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny) دیکھیں۔

## YIDDISH

צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער באזוכט [.NYC.gov/readyny](http://NYC.gov/readyny).



# READY NEW YORK

## ہری کین طوفان اور نیو یارک شہر

### آپ کو کونسی اصطلاحات سے واقف ہونا چاہئے

#### ہری کین واچ

کسی مخصوص علاقے میں ہری کین والے حالات ممکن ہوں اس کے بارے میں خبردار رہنے کا اعلان۔ ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔

#### ہری کین وارننگ

کسی مخصوص علاقے میں ہری کین کے حالات کی توقعات کے متعلق انتباہ کا اعلان ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 گھنٹے پہلے وارننگ (انتباہ) جاری کی جاتی ہے اور جب تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

#### ہری کین کا موسم

یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔)

#### ٹراپکل سائکلون (حاری بگولا)

بادلوں اور برق و باراں کے طوفان کا ایک منظم، گردش، کم دباؤ والا موسمی نظام جو منطقہ حارہ کے علاقوں میں بنتا ہے۔

#### ٹراپکل طوفان (حاری طوفان)

39-73 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک حاری بگولا

#### ہری کین

74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک حاری بگولا۔

## خطرات کو جانیں

### اسٹورم سرچ (طوفانی موج) کی طغیانی

یہ بری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے بری کین میں سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی شکل اختیار کرتا ہے جسے بری کین کی لہریں ساحل پر پھینک دیتی ہیں۔ ایک بڑا بری کین 30 فٹ سے زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ علاقوں میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے کئی میل دور تک خشکی کی طرف چل سکتی ہے۔ طوفانی موجوں کی طغیانی اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، عمارات کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

### ہوا

74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر ہواؤں پر مشتمل بری کین عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔

### بارش

بری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو فوری سیلابوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور ناقص آب نکاسی والے علاقے کو خاص طور پر سیلابوں کا زیادہ خطرہ لاحق ہے۔

## اگر طوفان آتا ہے

مندرجہ ذیل اقدامات کر کے تیار رہیں:

- کھلی، ہلکی چیزیں جیسے لن فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔
- ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے گیس گرل یا پروپین ٹینک۔
- کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔
- قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمنٹ میں سیلاب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔)
- سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔
- اپنی گاڑی اور جینریٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔
- اگر آپ انخلائی علاقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔
- اپنے فرج اور فریجز کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔
- اپنے ہاتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں۔ اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چلا جاسکتا ہے۔
- نسخہ کی دوائیاں بھروانے کیلئے آخری منٹ تک انتظار نہ کریں۔
- نقدی باہر نکالیں۔

## طوفان کے زمرے

بری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام (زمرے) میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

## کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے آپ کا اپنا گھر ہویا آپ کا گھر کرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیلاب اور ہوا سے ہونے والے نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیلاب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام (National Flood Insurance Program) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے [www.floodsmart.gov](http://www.floodsmart.gov) ملاحظہ کریں۔

## اپنے حلقے (زون) کو جانیں

شہر کے وہ علاقے جو طوفانی لہر کے سیلاب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیلاب کی بنیاد پر چھ طاقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور پیشین گوئی کے مطابق طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ باشندوں کو انخلاء کا حکم دے سکتا ہے۔

■ NYC.gov/knowyourzone پر ہری کین سے انخلاء والے علاقوں کے تلاش کار (ہری کین زون فائڈر) کا استعمال کر کے یا 311 (212-639-9675 ویڈیو ریلے سروس کے لئے، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) پر کال کر کے یا اس نقشے پر غور کر کے تعین کر لیں کہ آیا آپ ہری کین سے انخلاء کے طاقے میں رہتے ہیں یا نہیں اگر آپ کسی انخلاء علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کے علاقے سے انخلاء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں ایک پلان تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔ اگر آپ کا پتہ شہر کے ہری کین والے حلقوں میں ہے تو نیو یارک شہر کو ہری کین سے خطرے کی صورت میں آپ کو انخلاء کا حکم دیا جاسکتا ہے۔

■ انخلاء کرنے والوں کو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کے لئے تیار رہنا چاہئے جو انخلاء کے علاقے کی حدود سے باہر رہتے ہوں۔

■ اگر آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے پاس نہیں رہ سکتے تو تلاش کار کا استعمال کریں، 311 پر (212-639-9675 ویڈیو ریلے سروس کے لئے، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) پر کال کریں، یا پھر اس نشاندہی کے لئے کہ انخلاء کا کونسا سنٹر آپ کے لئے صحیح ترین ہوگا، اس نقشے کا استعمال کریں۔

## معذور، رسائی اور کارگزاری سے متعلق خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے

اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخلاء، اپنی عمارت میں ایلویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنیے، دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان سے قبل اپنے طور پر انخلاء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 پر کال یا ٹیکسٹ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخلاء کرنے کی تیاری کریں۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہو جائیں۔ اپنی یوٹیلیٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آلات کی وجہ سے زندگی بچانے والے آلات کے صارف (کسٹمر) کے زمرے میں آتے ہیں۔

اپنی منتقلی کے لئے اضافی وقت لے کر چلیں اور سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر دسترس میں رکھیں۔

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطلاعات اور تازہ معلومات حاصل کرنے کے لئے Notify NYC کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج (ASL) میں بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل بیپلکیشن حاصل کریں، NYC.gov/notifynyc کو ملاحظہ کریں، 311 کو کال کریں، یا NotifyNYC@ کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے NYC.gov/emergencymanagement سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

## اگر آپ کو انخلاء کے لئے حکم نہیں دیا گیا

### بجلی کے جانے کے لئے تیار رہیں

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کی حالت میں یقینی بنائیں کہ آپ کے ایمرجنسی سپلائی کٹ میں تجویز کردہ تمام اشیاء موجود ہیں۔ اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر ہے، تو انخلاء پر غور کریں۔

### جہاں ہیں وہیں پناہ لیں

اگر آپ کو انخلاء کی ضرورت نہ پڑے، تو جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی سپلائی کٹ کو استعمال میں لائیں۔ کھڑکیوں سے دور رہیں۔

# اگر آپ کو انخلاء کی ضرورت ہو

**اگر شہر کی طرف سے آپ کے علاقے کے لیے انخلاء کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق انخلاء کریں**

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ شہر کے کن علاقوں کو خالی کرنا چاہیے۔ اگر لازمی انخلاء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخلاء کیسے کیا جائے بشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے اختیارات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے 311 پر رابطہ کریں (ویڈیو ریلے سروس کے لیے 212-639-9675 پر یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115 پر)۔

## آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ کو کہاں جانا ہے

شہری انتظامیہ انخلاء کرنے والوں کو سختی سے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی تجویز دیتا ہے جو انخلاء کے علاقے سے باہر رہتے ہیں۔ ان افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے مراکز کھول دے گا۔ اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان اپنے ساتھ لائیں:

- اپنا گو بیگ
- سلیپنگ بیگ یا بستر
- دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آلات جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں
- نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ
- سینڈ سینٹائرز
- ہر فرد کے لئے منہ ڈھانپنے کا کپڑا

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور معذور، رسائی اور کارگزاری سے متعلق خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔ کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے NYC.gov/knowyourzone پر بری کین کے انخلاء والے علاقوں کے تلاش کار کو دیکھیں یا 311 پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا جائے گا اور ان سے انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔

## اگر آپ کے پاس پالتو جانور یا سروس کے جانور ہیں

اگر بری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخلاء کی حدود سے باہر کے علاقے میں آپ اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو اور خدمت دینے والے جانور لانے کی اجازت ہے۔ برائے مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ لائیں جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں شامل ہوں۔ ایک منصوبہ بنانے کے لئے NYC.gov/readyny پر جا کر "Ready New York": میرے پالتو جانور کا ہنگامی منصوبہ" استعمال کریں۔

## اگر آپ بیسمنٹ میں رہتے ہیں

بیسمنٹ میں رہنے والے لوگوں کو بری کین سے اضافی خطرات ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخلاء کی حدود سے باہر بھی ہوں۔ شہر کے کئی علاقے بارشی سیلاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمنٹ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو زمین کی بالائی سطح پر پناہ لینے کے لیے تیار رہیں۔

## اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں کے ٹوٹنے یا لرزے کے صورت میں ان سے دور رہیں۔ آپ کو کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانے کے لئے تیار ہونا چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخلائی منصوبے سے آگاہ رہیں۔ اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ ایلیوٹر پر انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخلاء کریں۔ ایلیوٹر خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں ہوسکتے ہیں۔

# نیو یارک شہر کے ہری کین سے انخلاء کے حلقے

این وائے سی انخلاء مراکز: اپنا نزدیک ترین مرکز نقشے پر دریافت کریں

BRONX		
PS 132 1245 WASHINGTON AVE.	IS / HS 362 921 E. 228TH ST.	HS OF LAW, GOV'T & JUSTICE 244 EAST 163RD ST.
PS 211 1919 PROSPECT AVE.	MORRIS HEIGHTS EDUCATIONAL COMPLEX 1780 DR. MARTIN LUTHER KING JR. BLVD	IS 158 800 HOME ST.
PS / IS 218 1220 GERARD AVE.	PS 20 3050 WEBSTER AVE.	IS 201 730 BRYANT AVE.
WALTON HS 2780 RESEVOIR AVE	PS 102 1827 ARCHER ST.	IS 391 2225 WEBSTER AVE.

MANHATTAN		
PS 92 222 W. 134TH ST.	LOUIS D. BRANDEIS HS 222 W. 134TH ST.	HS FOR ENVIRONMENTAL STUDIES 444 W. 56TH ST.
PS / IS 210 501-503 W. 152ND ST.	MARTIN LUTHER KING JR. HS 122 AMSTERDAM AVE.	IS 88 215 W. 114TH ST.
	MIDTOWN EAST CAMPUS (PS 59) 233 E. 56TH ST.	IS 90 21 JUMEL PLACE
	PS 48 4360 BROADWAY	IS 131 100 HESTER ST.

QUEENS		
PS 239 17-15 WEIRFIELD ST.	JHS 25 34-65 192ND ST.	AVIATION HS 45-30 36TH ST.
PS / IS 268 92-07 175TH ST.	JHS 185 147-26 25TH DR.	FRANK SINATRA HS 35-12 35TH AVE.
PS 307 40-20 100TH ST.	JHS 190 67-18 AUSTIN ST.	GROVER CLEVELAND HS 21-27 HIMROD ST.
TOWNSEND HARRIS HS 149-11 MELBOURNE AVE.	PS 58 72-24 GRAND AVE.	HILLCREST HS 160-05 HIGHLAND AVE.
	PS 100 111-11 118TH ST.	HS OF TEACHING, LIB. ARTS & SCI. 74-20 COMMONWEALTH BLVD.
	PS 149 93-11 34TH AVE.	IS 74 61-15 OCEANIA ST.

BROOKLYN		
PS 24 427 38TH ST.	IS 383 1300 GREENE AVE.	ADAMS STREET EDUCATIONAL CAMPUS 283 ADAMS ST.
PS 226 6006 23RD AVE.	MEDGAR EVERS COLLEGE PREP 1186 CARROLL ST.	IS 2 655 PARKSIDE AVE.
PS 289 900 ST. MARKS AVE.	PS 6 43 SNYDER AVE.	IS 55 2021 BERGEN ST.
PS 321 180 7TH AVE.	PS 7 858 JAMAICA AVE.	IS 88 544 7TH AVE.
PS / IS 30 7002 4TH AVE.	PS 12 430 HOWARD AVE.	IS 259 7305 FT. HAMILTON PKWY.
	PS 23 545 WILLOUGHBY AVE.	IS 324 800 GATES AVE.

STATEN ISLAND		
PETRIDES COMPLEX 715 OCEAN TERRACE	JEROME PARKER CAMPUS 100 ESSEX DR.	CURTIS HS 105 HAMILTON AVE.
	PS 56 250 KRAMER AVE.	IS 51 20 HOUSTON ST.

ہری کین سے انخلاء والے حلقے\*\*

جب ایک ساحلی طوفان آ رہا ہو، سٹی حلقہ 1 سے شروع کر کے ضرورت کے مطابق مزید حلقوں کو شامل کرتے ہوئے سیلاب کے خطرے میں آنے والے علاقوں سے انخلاء کا حکم دے سکتی ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق ہری کین کی طوفانی موج کی شدت، قوت اور راستے کی وجہ سے زندگی کو لاحق خطرات کی بنیاد پر حلقے خالی کئے جائیں گے۔

NYC.GOV/KNOWYOURZONE ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ ہری کین کے انخلاء والے حلقے میں رہتے ہیں۔

- انخلاء کے مراکز
- رسائی یافتہ انخلاء کے مراکز


\*\* انخلاء مراکز بشمول رسائی کی خصوصیات سے متعلق معلومات میں تبدیلی ہوسکتی ہے۔ عمارتوں کی صورتحال اور رسائی کی خصوصیات سے متعلق تازہ ترین اطلاعات کے لیے براہ کرم NYC.gov/knowyourzone ملاحظہ کریں یا 311 پر رابطہ کریں۔

فلڈ زون کو فلڈ انٹرنس کی شرح اور عمارت کے ضابطے قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ باشندوں کو جاننے کہ وہ ساحلی طوفان کے دوران انخلاء کی ضرورت کے تعین میں فلڈ زون کا استعمال نہیں کریں۔ جیسے طوفان شہر پہنچ رہا ہو، شہر کا انتظامیہ اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سے ہری کین انخلاء زون (زون 1 سے زون 6 تک) کو واقع طوفان کی خصوصیات کے مطابق حالی کیا جائے گا۔ فلڈ زونوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے NYC.gov/floodmaps یا www.floodhelpny.org ملاحظہ کریں۔



انخلاء کم ممکن ہے  
انخلاء بہت ممکن ہے

\* انخلاء کی معلومات بدل سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی NYC.gov پر جائیں یا 311 پر کال کریں (212-639-9675 ویڈیو ریلے سروس کے لیے یا ٹی ٹی وائی: 212-504-4115)۔ ٹرانزٹ کی تازہ ترین معلومات کے لیے MTA کی ویب سائٹ www.mta.info پر جائیں یا 511 پر کال کریں۔ اگر آپ کو ایمرجنسی کے دوران انخلاء میں مدد کی ضرورت ہو تو 311 کو کال کریں۔



# ایمرجنسی الرٹ مفت حاصل کریں

ایپل اور انڈروئڈ ڈیوائس کے لئے مفت ایپ حاصل کریں




ملاحظہ کریں  
NYC.gov/notifynyc

کال کریں  
311 (212-639-9675)  
ویڈیو ریلے سروس کے لئے،  
یا ٹی ٹی وائے: (212-405-5114)

فالو کریں  
@NNYCUrdu

Notify NYC

سیلاب کا الرٹ



NYC  
Emergency  
Management